

# Nurturing Believers

## خواتین کے لئے تربیت اولاد سے متعلقہ نصائح کا سلسلہ

### حصہ ۶: تربیت کی بنیادِ محبت پر (حصہ ۵ سے جاری): اظہارِ محبت کی طاقت

والدین کے لیے اپنے بچوں کو گلے لگانے میں بہت سے فوائد ہیں، اور یہ ایک ایسا نسخہ ہے جسے کبھی بھی اور کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بغیر کسی معاوضہ کے۔ بظاہر یہ ایک معمولی سا عمل ہے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے ہم اپنے بچوں کی بہت ساری مختلف جذباتی ضروریات پوری کر سکتے ہیں جیسے کہ محبت، توجہ، حمایت، اعتماد اور احساسِ تحفظ۔ مزید یہ کہ اس کے ذریعے ہم بچوں کے جذبات اور لڑائی جہگڑوں پر مؤثر طریقے سے قابو پا سکتے ہیں۔



گلے لگانا ہر کسی کے لیے اطمینان بخش ہوتا ہے۔ اب سائینسی تحقیق سے ثابت ہے کہ یہ دل کی خوشی، صحت اور تندرسی، حقیقی کے عقل و سمجھ اور طاقت و قوت پر بھی مثبت انداز سے اثر انداز ہوتا ہے۔

- جسم کی ٹینشن زائل ہوتی ہے اور سکون ملتا ہے

- درد کا احساس دور ہو سکتا ہے

- خوف کم ہوتا ہے اور تحفظ کا احساس بڑھتا ہے

- اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور دل کی بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے

- جسم کا تحفظی نظام مضبوط ہوتا ہے

- خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے

- مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے

- ہمیں اپنے اصل جذبات پہچاننے کا موقع ملتا ہے

بچوں سے اظہارِ محبت کے فوائد حاصل کرنے کے لیے درج زیل ضروری ہیں:

پہلے، ہمیں خود کو اور اپنے گھر والوں کو اظہارِ محبت کا عادی بنانا ہوگا۔

بعض والدین اپنے بچوں کے ساتھ اظہارِ محبت نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انکی اپنی پرورش میں انکے والدین کی طرف سے اس میں کمی تھی۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے اس رویے کو بدیلیں اور اپنے بچوں کو سینے سے لگانے کی عادت ڈالیں، اور انہیں بھی یہ احساسِ دلائیں کہ وہ جب چاہیں آپ سے گلے لگ سکتے ہیں۔

یاد رکھیں کہ اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرنا بیماریے نبی ﷺ کی مبارک سبتوں ہے، اور اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ ایک مرتبہ نبی ﷺ اپنے نواسے سیدنا حسنؑ کو بوسہ دے رہے تھے کہ ایک اعرابی صحابی نے ان کو دیکھ کر کہا، ”آپ بچوں سے بہت بیار کرتے ہیں۔ میرے دس بچے ہیں، میں نے تو آج تک ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔“ نبی ﷺ نے جواب میں فرمایا، ”جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اسکے ساتھ رحم کیا نہیں جاتا۔“ ایک اور موقع پر کسی نے آپ ﷺ سے کہا، ”آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ ہم تو نہیں دیتے،“ تو نبی ﷺ نے فرمایا، ”اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے، تو میں اس میں رحم نہیں ڈال سکتا۔“ حضرت علامہ بن زیدؓ فرماتے تھے کہ نبی ﷺ مجھے اور

حضرت حسن بن علیؑ کو اپنے گھٹنوں پر بٹھائے اور سینے سے لگائے اور دعا فرمائے، ”اَللّٰهُ اَنْ پِر رَحْمَ كَرْتَا ہوں۔“ اپنے بچوں سے اظہارِ محبت میں اگر ہم اتباعِ سنت کی بھی نیت شامل کر لیں، تو دنیا اور آخرت دونوں میں خیر پا سکتے ہیں۔

دوسرًا، اظہارِ محبت میں زبردستی نہ کریں۔

ہمیں اظہارِ محبت میں اپنے بچوں کی مرضی مدنظر رکھنی چاہئی، اور گلے لگانے سے پہلے اس طرح پوچھ لینا چاہئی، ”میں اپنے بچے کو ہگ کر سکتی ہوں؟“، یا ”مجھے لگتا ہے آپ کو بڑا سا بگ چاہئیے ہے“ یا ”آپ بہت پریشان ہو، بگ سے بہتر محسوس کرو گے۔“ یہ بھی ابھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ادب کے ساتھ کسی کے لگنے سے انکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی کہ ہم اپنے بچوں کو کسی سے پیار لینے پر مجبور نہ کریں، چاہیے وہ قبیلی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس سے بچوں میں جنسی تشدد سے اپنا تحفظ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔

تیسرا، گلے لگا کر بچے کے جذبات کو ٹھہنڈا کریں۔

جب بچہ واویلا کرتا ہے یا بہت غصہ کرتا ہے، تو اکثر اوقات وہ دراصل آپکی محبت اور توجہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کر بچے کی ضروریات (محبت، توجہ) پوری کرنی چاہئی ہیں، نہ کہ اپنے منفی جذبات کے تقاضوں پر عمل۔ ہمیں چاہئیے کہ ہم گھٹنوں کے بل گر کر اپنے بازو پھیلائیں اور بچے سے پوچھیں، ”میں آپ کو گلے لگا سکتی ہوں؟“ بچہ عموماً درج زیل میں سے کوئی رد عمل دے گا:

بچے کے احساسات	بچے کا عمل	آپ کا رد عمل
<ul style="list-style-type: none"> <li>• خوف</li> <li>• اداسی</li> <li>• گھبراہٹ</li> <li>• الجهن</li> <li>• معمولی تکلیف یا چوت</li> </ul>	بھاگ کر گلے لگ جاتا ہے	پر سکون گھری سانسیں لین تاکہ بچہ بھی آپ کی پیروی کرے۔ آہستہ سے اس کے کان میں تسلی دینے والے الفاظ کھیں جب تک کہ وہ بالکل پر سکون ہو جائے اور خود آپ سے علیحدہ ہو جائے۔
• زیادہ ناراضی کی وجہ سے آپکی دعوت قبول کرنے سے عاجز	کہتا ہے اسے آپکے لگنے نہیں لگنا	اسے کہیں کہ در اصل آپکو اس سے گلے لگنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ پھر بھی انکار کرے تو کہیں کہ آپ اسکے لگنے کا انتظار کریں گی۔
• نہ سنبھالے جانے والے قوی جذبات	کہتا ہے اسے آپکے لگنے نہیں لگنا عاجز	بازو پھیلائی رکھیں اور کہیں ”لگتا ہے آپکو بڑے سے ہگ کی ضرورت ہے، میں آپکو ہگ کرنے آرہی ہوں“، اور بچ کو اپنی باہوں میں لے لیں، گھری پر سکون سانسیں لین، اور تسلی دینے والے الفاظ کہتی رہیں جیسے، ”سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔“ بس بچے کو پیار کرتی رہیں جب تک آپ محسوس کریں کہ وہ پر سکون ہو گیا ہے، اور مسئلے پر ڈسکشن کرنے میں جلدی نہ کریں۔

بالکل چھوٹے بچے طبعاً اپنے والدین کی بے چینی یا پر سکونی کو محسوس کر کہ ان کی عکاسی کرتے ہیں۔ غرض بالکل چھوٹے بچے کو اگر انہا کر گلے سے لگایا جائے، اور نرم آواز میں اسے تسلی دی جائے تو وہ تھوڑی ہی دیر میں پر سکون ہو جاتا ہے۔ اسے یونہی پکڑے رہیں جب تک وہ پوری طرح ریلیکس نہ ہو جائے۔

چوتھا، کسی وجہ بغیر ہی گلے لگائیں۔

گلے لگانا، اور دوسرا طریقوں سے محبت کا اظہار کرنا مثلاً بوسہ دینا، بالوں میں یا پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا، والدین اور بچوں کے درمیان محبت کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ اس اظہارِ محبت کو صرف بچے کو خاموش کروانے یا انعام کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہئی بلکہ اسے ویسے ہی بچوں کے ساتھ ہماری ڈینگ کا حصہ ہونا چاہئی۔ شائد کسی وقت ہمیں بتہ بھی نہ ہو اور ہمارا بچہ اندر سے دکھی ہو، اور ہمارے پیار کرنے سے اسکے دل کو تسلی مل جائے اور اسکی پہمتیں پھر بلند ہو جائیں۔